


این آر ایس پی مائیکرو فنانس بینک لمیٹڈ
اور
اسلامک بینکاری



1- اسلامی بینکاری کیا ہے؟

اسلامی بینکاری میں بینک اپنے صارفین کی معاشی مالی ضروریات کی تکمیل کے لئے اسلامی طرز تجارت کے اصول اختیار کرتا ہے۔ چونکہ اسلام میں اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت سے نفع کمایا جاسکتا ہے لہذا صارفین اپنی مالی ضروریات پوری کرنے کے لئے بینک کے پاس آتے ہیں اور اسلامی بینک باہمی شراکت یا پھر اجازت جات کی خرید و فروخت کے ذریعے ان کی مالی ضروریات پوری کرتا ہے۔

2- این آر ایس پی بینک (اسلامک ڈپازیشن) لوگوں کے کھاتے کس بنیاد پر کھولتا ہے؟

این آر ایس پی بینک (اسلامک ڈپازیشن) کے کھاتہ دار اپنا سرمایہ بینک کے پاس قرض یا شراکت اور مضاربہ کی بنیاد پر رکھتے ہیں۔ این آر ایس پی بینک میں کھاتہ داروں کی جانب سے جمع کروائی جانے والی رقم کی دو اقسام ہیں۔

1- ایک وہ رقم جس کی بینک اصل رقم کی واپسی کی ضمانت دیتا ہے۔ ایسی رقم کو بینک قرض کے معاہدہ کے تحت لیتے ہے ایسے کھاتے جو معاہدہ قرض کے تحت کھولے جاتے ہیں اور یہ کرنٹ اکاؤنٹس کہلاتے ہیں۔

2- دوسری رقم وہ ہے جس میں بینک کے کھاتہ دار بینک کیساتھ نفع و نقصان میں شریک ہوتے ہیں۔ این آر ایس پی بینک (اسلامک ڈپازیشن) ایسے کھاتے معاہدہ مضاربہ کے تحت قبول کر لیتا ہے۔ جس میں بینک مضارب اور کھاتہ دار رب المال ہوتا ہے۔ اس طرح کے کھاتوں میں دو طرح کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں۔

1- متعین مدت والے کھاتے (TERM DEPOSIT ACCOUNTS)

2- غیر متعین مدت والے کھاتے (SAVING ACCOUNTS)

3- مضاربہ کیا ہے؟

مضاربہ باہمی شراکت کا ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں سرمایہ دار اپنا سرمایہ دیتا ہے اور ہنرمند اس سرمایہ سے کاروبار کرتا ہے اس کاروبار سے ہونے والا منافع دونوں میں باہمی رضامندی سے طے شدہ تناسب سے تقسیم ہو جاتا ہے۔

4- بینک مضاربہ کیسے کرتا ہے؟

این آر ایس پی بینک (اسلامک ڈپازیشن) ہنرمند (مضارب) کے طور پر اپنے کھاتہ داروں (رب المال) سے سرمایہ لیتا ہے اور اس سرمایہ کو سیکھا

